



سوال

(723) ملاپ سے فسح نکاح کا اختیار باطل نہیں ہوتا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر کسی نے عورت سے نکاح کیا مگر اس میں عیب پایا، پھر اسے سے علیحدہ رہا تا کہ نکاح کو فسخ کرانے، پھر بھول گیا اور اس سے ملاپ کر لیا، تو کیا اس سے اس کا اختیار باطل ہو جائے گا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

علماء نے لکھا ہے کہ جب بیوی میں کوئی عیب معلوم ہو اور شوہر اس سے ملاپ کر لے، یا عورت اسے ملاپ کا موقع دیتی ہے جبکہ شوہر اس کے عیب سے آگاہ ہے، تو یہ ملاپ یا اس کا موقع دینا رضامندی کی دلیل ہوگی۔ اور ان حضرات نے اس میں کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ ملاپ عدا ہو یا نسیان سے۔ الغرض اب شوہر کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے باخبر ہونے کے باوجود اس سے ملاپ کیا ہے۔

ھذا ما عندي والله أعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 517

محدث فتویٰ